

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Appeal No. 1441/2019

Date of Institution ... 31.10.2019

Date of Decision ... 14.07.2020

Hazrat Younas S/o Muhammad Rahim,  
R/o Jamra Lilawnai, Tehsil Alpuri, District Shangla Ex-T.T. BPS-07 at GMS  
Sheshan Lilawnai District Shangla. ... (Appellant).

VERSUS

Govt: of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Elementary and Secondary  
Education, Peshawar and three others. ... (Respondents)

Present.

Mr. KALEEM ULLAH,  
Advocate.

... For appellant

MR. MIAN MUHAMMAD,

... MEMBER (Executive)

JUDGMENTMIAN MUHAMMAD, MEMBER:-

1. The appellant was recruited as Theology Teacher in BPS-07 vide office order of the DEO(M) Secondary Nowshera dated 30.03.1996. He was posted against the vacant post in GMS Sheshan Lilawnai District Shangla. It was further contended by the learned counsel for the appellant that he was performing his duties with zeal and zest in District Shangla when during the period of insurgency in Malakand that schools in the areas were closed. It was during that period that EDEO Shangla vide office order dated 25.01.2010 imposed the major penalty of "Dismissal from the service" upon the appellant under the prevalent law at that point of time i.e Khyber Pakhtunkhwa Government Servants Removal from Service (Special Powers) Ordinance 2000. The appellant has been condemned unheard as no

charge sheet/statement of allegations or show cause notice has been issued to the appellant which is against the spirit of natural justice, law and rules. When confronted on the point of limitation, the learned counsel relied on various judgments of the august Supreme Court pertaining to void orders where limitation can be ignored and cases be considered/decided on merit. When confronted with another point as to whether the appellant sought any departmental remedy available to him, he raised the point that the impugned order dated 25.01.2010 was issued on the back of the appellant. He was not aware of the impugned order nor he was intimated it officially. It was only in the year 2019 that he came to know about major penalty of "dismissal from Service". Moreover, the appellant has time and again requested to DEO(M) Shangla for his posting and pay but to no avail till date and the last reference in this respect is of dated 26.08.2019 available on record.

02. Now in view of the special circumstances in Malakand Division on the face of Talibanization during that period and taking in view the judgments of apex court regarding void orders, the departmental appeal dated 02.02.2010 is sent back to the respondents to decide the same through speaking order within a period of two months. The appeal is disposed off accordingly. File be consigned to the record room.


  
(MIAN MUHAMMAD)  
MEMBER(E)

ANNOUNCED  
14.07.2020

21.01.2020

Appellant present in person.


Requests for adjournment due to general strike of the Bar. Adjourned to 03.03.2020 before S.B.



Chairman

03.03.2020

Counsel for the appellant present and seeks adjournment. Adjourned to 16.04.2020 for preliminary hearing before S.B.



(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)  
MEMBER

16.04.2020

Due to public holiday on account of COVID-19, the case is adjourned to 14.07.2020 for the same. To come up for the same as before S.B.






Reader

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 1441/2019

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	31/10/2019	<p>The appeal of Mr. Hazrat Younas presented today by Mr. Kaleemullah Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR 31/10/19</p>
2-	01/11/19.	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>12/12/19.</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
R	12.12.2019	<p>Appellant in person present.</p> <p>Appellant requests for adjournment due to non-availability of his learned counsel owing to the general strike of the bar.</p> <p>Adjourned to 21.01.2020 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>

**BEFORE THE HONOURABLE  
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
PESHAWAR**

Service Appeal No. 1441 /2019

Hazrat Younas

(Petitioner)

**V E R S U S**

Govt. of KP through Secretary Education, Peshawar and others

(Respondents)

**INDEX**

S. No.	Documents	Annex:	Page No.
1	Grounds of Appeal a/w Affidavit		1-4
2	Application for condonation of delay a/w Affidavit		5-6
3	Copy of CNIC		7
4	Copy of appointment order		8
5	Copy of impugned order dated 25.01.2010		9-10
6	Copy of departmental presentation		11-15
7	Copy of service book		16
8	Attendance Register		17
9	Wakalat Nama		18

Petitioner

Through

Kaleem Ullah

&

Jannat Hussain

Advocates High Court,

Peshawar

Dated: 23.10.2019

**BEFORE THE HONOURABLE  
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
PESHAWAR**

Service Appeal No. 1401 /2019

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Hazrat Younas S/o Muhammad Rahim

Diary No. 1535

R/o Jamra Lilawnai, Tehsil Alpuri, District Shangla

Date 31/10/2019

Ex-T.T. BPS-07 at GMS Sheshan Lilawnai District Shangla

(Petitioner)

**V E R S U S**

- 1) Govt. of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Elementary & Secondary Education, Peshawar
- 2) Director Elementary & Secondary Education, Peshawar
- 3) Director Coordination Officer, District Shangla
- 4) Executive District Officer, Elementary & Secondary Education, District Shangla

(Respondents)

Appeal Under Section 4 of the KP  
Service Tribunal Act, 1974 against  
the order dated 25.01.2010, whereby  
the order of dismissal from service  
has been passed against the  
appellant.

Filed to-day

Registrar

31/10/19

**Prayer:**

That on acceptance of this appeal, the order dated 25.01.2010 may please be set aside and the appellant be reinstated

2

back to his service with all back benefits  
OR in alternative the respondent may  
kindly be directed to award the  
pensionary benefits to the appellant.

Respectfully Sheweth,

Brief facts given raise to the instant appeal are as below:

- 1) That the appellant was appointed as Theology Teacher and was posted against the vacant post in Govt. Middle School, Sheshan Lilawnai District Shangla in the year 1996. (Copy of appointment order is attached)
- 2) That the appellant has been serving his department as a teacher by heart and sole and has got at his credit a length of service standing to more than 14 years.
- 3) That the respondent No. 3 vide its impugned office order No. 502-09/EDO(H) dated 25.01.2010 dismissed from the service on the flimsy grounds that the appellant belongs to a Terrorist Organization. (Copy of impugned order is attached)
- 4) That the appellant so many time verbally as well as through written application prefer departmental appeal to the highups but till date no fruitful response was given to the appellant nor any order in black and white till date with regard to the departmental appeal of the appellant was awarded to the appellant, hence the appellant approached this

3)

hon'ble tribunal on the following grounds amongst others.

**GROUND:**

- A) That the impugned order dated 25.01.2010 is against the law, facts, norms of natural justice, hence not tenable and liable to be set aside.
- B) That the appellant has not been treated by respondent / department in accordance with law and rules on the subject noted above and as such the respondents violated the provision of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
- C) That no show cause notice whatsoever has been served upon the appellant nor any inquiry has been constituted to probe into the matter.
- D) That no opportunity was given to the appellant to be heard by the respondent.
- E) That the impugned order dated 25.01.2010 is a classic example of "nemo judicatus" i.e. no one should be condemned unheard.
- F) That the allegation on the basis of which the appellant was dismissed from the service is not supported by any documentary proof nor the appellant is nominated till date in a criminal case nor the appellant has any criminal history.



4  
G) That the appellant seeks permission to advance other grounds and proofs at the time of hearings.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this appeal, the order dated 25.01.2010 may please be set aside and the appellant be reinstated back to his service with all back benefits OR in alternative the respondent may kindly be directed to award the pensionary benefits to the appellant.

Appellant


Through

Kaleem-Ullah  
& Janat Hussain  
Advocate High Court,  
Peshawar

Dated: 23.10.2019

**AFFIDAVIT**

I, Hazrat Younas S/o Muhammad Rahim R/o Jamra Lilawnai, Tehsil Alpuri, District Shangla Ex-T.T. BPS-07 at GMS Sheshan Lilawnai District Shangla, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of instant application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this honourable court.



DEPONENT

Hazrat Younas

31 OCT 2019

5,

**BEFORE THE HONOURABLE  
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
PESHAWAR**

Service Appeal No. \_\_\_\_\_/2019

Hazrat Younas

\_\_\_\_\_  
(Petitioner)

**V E R S U S**

Govt. of KP through Secretary Education, Peshawar and others

\_\_\_\_\_  
(Respondents)

**Application for condonation of delay  
in filing of instant service appeal.**

**Respectfully Sheweth,**

- 1) That the appellant filed above mentioned appeal along with this application before this august Service Tribunal in which no date has been fixed so far.
- 2) That the respondent till date has not given any decision on the departmental appeal of the appellant and the appellant was kept at hope till date, that's why the instant appeal is filed.
- 3) That delay in filing of the instant appeal was not intentional but due to the reason mentioned above.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this application the delay in filing of the instant appeal may kindly be condoned for the ends of justice.

*[Signature]*  
Petitioner / appellant

Through

*[Signature]*  
Kaleem Ullah  
&  
Jannat Hussain  
Advocates High Court,  
Peshawar


Dated: 23.10.2019

**AFFIDAVIT**

I, Hazrat Younas S/o Muhammad Rahim R/o Jamra Lilawnai, Tehsil Alpuri, District Shangla Ex-T.T. BPS-07 at GMS Sheshan Lilawnai District Shangla, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of instant application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this honourable court.

DEPONENT

*[Signature]*  
Hazrat Younas



31 OCT 2019

7

حکومت پاکستان



قومی شناختی کارڈ

15501-4483781-9

محمد یونس

پیدائش

والد کا نام

شناختی علامت

1969

عمران یوسف مبین

تاریخ پیدائش

دستخط خالی کارڈ

دستخط مسز/سزا/میران

شناختی نمبر: 15501-4483781-9 خانہ ان نمبر: UX9X5D



موجودہ پتہ: ڈی ایچ ای، ایف ایف ای، ضلع شاگلہ

مقبول ایف ایف ای، ضلع شاگلہ

تاریخ اجراء: 22/07/2019 تاریخ منسوخ: 22/07/2029

کشنر کارڈ ملے، ایف ایف ای، ڈی ایچ ای، ڈی ایچ ای

11369272785



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) SECONDARY NOWSHERA.

APPOINTMENT./

Consequent upon Selection/Recommendation of the selection Committee, Mr. Hazrat Yous S/O MOHAMMAD RAHIM candidate is hereby appointed against post of TT in BPS No. 7 of Rs. 1460/- P.M. plus-usual allowances as admissible under the rule with effect from the date of taking overcharge at 9/11/2014 N/A against the vacant/NCP/Leave-on-the-terms and conditions noted above:-

TERMS AND CONDITION./

- 1/. ~~The appointment is purely temporary and liable to termination at any time without assigning any reason or notice.~~
- 2/. ~~In case of resignation they will have to submit one month prior notice to the Deptt. or forfeit one month pay from the Govt. Servant.~~
- 3/. ~~They are required to produce Health and Age-Certificate from the Medical authorities concerned before taking over charge in case they are not Govt. Servant.~~
- 4/. ~~They are not allowed to take over charge if their Age less than 18 years and above.      years.~~
- 5/. ~~All original Educational, Character and Domicile certificates must be verified by the Head of Institution concerned before handing over charge.~~
- 6/. ~~If they fail to take over charge of the post within seven days from the issued of this order the appointment will be automatically considered as cancelled.~~
- 7/. ~~Charge report should be submitted to all concerned.~~
- 8/. ~~No TA/DA etc is allowed.~~

( QAZI FASIHUDDIN )  
DISTRICT EDUCATION OFFICER,  
(MALE) SECONDARY NOWSHERA.

Endst No. 2475-78 P.No. A-TT /Appointt:NSR the 30/12/96  
Copy forwarded for information and n/a to the:-

- 1/. District Accounts Officer Nowshera.
- 2/. Head Master - S/Os Nowshera
- 3/. Candidate concerned
- 4/. P. file

( )  
DISTRICT EDUCATION OFFICER,  
(MALE) SECONDARY NOWSHERA.

9, 

OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER E&SE, SHANGLA.

OFFICE ORDER.

WHEREAS it has been noticed from the reliable source that you Mr. Hazrat Younas posted as T.T BPS - 07 in GMS Sheshan Lilawnai District Shangla have indulged yourself as "You are the rother of the commander Muhammad Alam and supported Taliban in District Shangla by providing shelters to them and presently absconding".

AND WHEREAS from the reliable source report the undersigned is of the opinion that you being a Govt. servant are guilty for misconduct under Section-3 Sub-section-b of the removal from service (Special powers ordinance 2000-01) and as well Sub-section-d of section-3 engaged in subversive activities.

AND WHEREAS your retention in service is prejudicial to national security.

AND WHEREAS from the reliable source report you have been found actively involved in anti-state activities, which demands the initiation of the disciplinary proceedings against you under Section-3 Sub-section-b & d of the aforesaid ordinance Removal form service (Special power ordinance 2000-01).

AND WHEREAS the undersigned being the competent authority, issued a show cause notice against you vide this office letter No. 334 dated 19/01/2010. On the response of the show cause notice your written reply has not been recived in the stipulated time as you have been absconding since 20/09/2009 form your govt. duty.

AND WHEREAS for the reasons mentioned in the show cause notice, I being the competent authority unsatisfied from your behavior and found you guilty for misconduct under Section-3 Sub-section-b and also found you involved in subversive activities under Sub-section-d of Section-3 of the aforesaid

(10) 38 4

ordinance and therefore needs no further proceedings under Section-5(4) of the North West Frontier Province removal from service (special powers) (amendment) Ordinance 2000-01.

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by Section-3 of North West Frontier Province Removal from service (special powers) Ordinance 2000-01, I the undersigned being the competent authority is pleased to imposed a major penalty of "dismissal form Service" on Mr. Hazrat Younas posted as T.T BPS-07 in GMS Sheshan Lilawnai with immediate effect.


Sd/-  
**EXECUTIVE DISTRICT OFFICER  
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION  
DISTRICT SHANGLA.**

No. 502-09 /EDO(H)

Dated: 25 /01/2010.

cc:

- 01/02 The Additional Chief Secretary Govt. of NWFP Home & TAs, Department Peshawar.
- 02/10 The Secretary to Govt. of NWFP E&Se, Department Peshawar.
- 03/11 The Commissioner Malakand division at Saidu Sharif, Swat.
- 04/12 The District Magistrate / DCO Shangla.
- 05/13 The District Accounts Officer Shangla.
- 06/14 The Account concerned Local office.
- 07/15 The ADOs(Estt:) local office.
- 08/16 The Official concerned.

  
**EXECUTIVE DISTRICT OFFICER  
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION  
DISTRICT SHANGLA.**

محفوظ کتاب D-E-O کے تحت تعلیم و تہذیب کے شعبہ

درجہ اولیٰ میں امتحان کالی مسائل پر  
ادائگی کی صورت میں 2010ء کا حال

صاحب عالی نے اس وقت ذیل کے مسائل حل کیے

صاحب عالی نے گورنمنٹ مڈل سکول ٹیچنگ کالج

میں کینیڈا اسلام آباد میں کھانا اور ایسا ڈیوٹی بنایا اور ان کے

سے سرائیام دے دیا تھا جس سے 2009ء میں سوائے حالات

کا لگان سے وہ سے بنایا خراب ہو گیا جس میں طالبان کے

کو لوگ بھی ملے تھے جس سے وہ سے نکل کر ٹوٹ کر

سے پڑھا جس کا کیا تھا۔ حالانکہ اس نے نہ کسی پڑا

تعلیم کاروں سے اور نہ حکومت پاکستان کے خلاف کسی اور

لئے اس کے ساتھ ساتھ کہ مسائل کا اور فوائد منظور

کے مسائل کی نوکریں کالی زبان کی کتابا صادر فرمائیں

مترجمانہ مسائل کو جملہ ٹیچر وغیرہ سے مرعات وغیرہ

دیکھ کر اطمینان حاصل فرمائیے۔ 2.2.2010

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی  
شمال مولانا حضرت یونس ولد محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی



درخواست مزاد بحالی سسر و سس کھٹ - آ آ بلکہ ماہانہ پنخوراہ دو گیس مہر مہاشہ

جناب عالی یہ خودیادہ نزارشیں بجائی ہے یہ سائل سڈل سڈل ششہ لیلوئی طہوئی میں کھٹ

اسلامیاتی ٹیکسٹو سٹین جب 2009 میں سوات ریلوے میں حالات خراب ہوئی اور طالبان

اور آج بائیسانہ دریاں لڑائی شروع ہوئی تو علاقہ میں امن نہ کر سکیں نہ خط لگادی۔ جس

لامت سے سڈل وغیرہ بند ہوئی ہمیں لڑ خود سے نکلے اور علاقے سے ہجرت کی کیونکہ حکومت

نے اعلان کیا کہ سب ٹوٹ لڑوں سے نکلے اور علامہ قذافی کھریں۔ چند عرصہ بعد جب صبح

دوبارہ آئیں اور سڈل میں اپنا ڈیوٹی سرانجام دے کر گئے تو معلوم ہوا کہ محلہ لہم

کے افسروں نے مجھے ایسی نوکری سے برخواستگی ہے۔ جس میں سائل نے اپنے افسر بالا

سے رابطہ کیا تو سائل کو جواب ملا کہ ایک لگائی وہ پھر خانہ انڈر ڈویژن کے علاقے

طالبان نے گروپ میں شامل ہوئی ہیں۔ جس سے یہ سائل کو نوکری

سے برخواست ہوئے ہے۔ میں سائل نے فوراً نذر لے درخواست ایمان کے

تہ سائل نے تو طالبان و دیگر ٹریپس میں سرکاری تنظیم میں شامل ہوا اور نہ کہ

پاکستان کے خلاف کسی گروپ میں شامل ہوئے۔ نیز سائل نے

یہ اور سائل کو اپنا نوکری کال کھریں۔ جتنے بعد سائل نے دورانہ دستروں اور اسٹریٹ

کے ساتھ ساتھ کاحکر لگاتا رہا لیکن آج تک سائل کا مسئلہ حل نہیں ہوا

میں سائل دوبارہ ایک صورت میں دیکھیں درخواست دوبارہ ایمان کے

تہ سائل نے کہا کہ غریب اعانتدار اور فرض سناہن سنی میں ہے اور سائل کا

پھر نوکری کال کرنے اور سائل کا بلکہ پنخوراہ بعد دیگر مہر مہاشہ دینے کی امکان

ملی سے صادر فرمائیں

الغرضی صورت 25-03-2013

سائل حضرت یونس ولد محمد رحیم ساکن جامعہ لیلوئی کھٹ لہور

صورت نوکری

محرمت ڈی۔ اے۔ اور صاحب محمدہ تقیم صلح سنانعلی

درخواست سے مراد بحالی نوکری کے ملازمت کیسٹ آ۔ آ۔

وحدہ پنحوالا اور 2006ء کے حالات کے الاؤنس دیگر فریٹات وغیرہ۔

جواب نمبر 1:۔ سائل حسب ذیل عرض رسالہ ہے۔

صاحب والا سائل پورنسٹ مڈل سکول سٹیشن لیلوٹی میں کیسٹ

آ۔ آ۔ پوسٹ پر لکھنا کے لئے سوائے سوائے میں امن امان

حوالہ نمبر سوائے میں فوجی ایسٹن شروع ہوا تو سوائے علاقہ میں سرحدوں

نا قدر ہوئی اور تمام ادارے بند ہو کر لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اسی طرح مسائل کے علاقہ میں بھی آئے دوں علاقہ کے لوگ۔ جب حالات

کھسک ہوئے اور میں سائل عبد ایل عیال ان علاقہ واپس ہوئے اور سائل اپنے

ڈیوٹی پر انجام دینے کے بعد سکول بند ہو گیا اور صلح ہوا

کہ سائل کو ایسی نوکری سے ہر خاصیت ہو چکی ہے۔ جس سے

سائل اپنے محلہ کے افسروں سے رابطہ بنا کر صلح ہو کر سائل کو

اپنے نوکری سے ہر خاصیت ہو چکا ہے کہ سائل نے جانن

کے افراد طالبان میں شامل ہو چکے ہیں۔ جس سے

سے مسائل کو بھی نوٹ کر رہے نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں مسائل  
 نہ طالبان میں شامل ہوئے ہیں اور نہ ہی سرسرا کاروں - تنظیم  
 رکن ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان کے خلاف کسی بھی  
 سرگرمی میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اس لیے علاوہ میں مسائل  
 حکمہ نظر آئے تو موسم ہی تسلی دینے کو تیار ہے۔ مسائل بہت عزیز  
 آدمی ہے۔ مسائل کے خلاف نہ تو کسی FIR ہے نہ کوئی  
 اور حکومت کے خلاف کسی قسم کے اقدام وغیرہ۔ مسائل کے اس سے  
 دلچسپی بہت ہی درخواست آئی خدمت میں گزارا ہے کہ میں بحال  
 کوئی مثبت نتائج پر آمیز نہیں ہوں۔

کہنا شروع ہے کہ مسائل کا درخواست منظور  
 کر کے مسائل کا نوٹ کر کے بحال کرنا کا امکان صادر فرمایا گیا۔  
 ستمبر 2006ء بحال عملہ متحرک رہے جبکہ دیگر سرگرمیاں ہیں دینے کا  
 امکانات صادر فرمائیں۔

القاریں فورج - 20/6-10-11

حضرت یونس  
 آغا حضرت شمس الملک مولانا حضرت یونس ولد محمد رحیم  
 - کاتبہ عامہ - اے۔ اے۔ اے۔ اے۔ اے۔ اے۔

جنوب صواب ڈی۔ ای۔ روح۔ حکم تسلیم قبول و تعلق

سورہ حضرت یونس و در حد صمیم سکہ صادرہ بلوغہ (دھیرا) تغیر امور تعلق تعلق

درخواست علیہ حال کی سرکشی، اور ایسی ہی اجازت ہونے  
تنبیہ و تذکرہ

صفا علیہ! درخواست ذیل پر مطلقا۔

1۔ یہ کہ ہم تو غنیمت مانی گولی ہمیشہ لیوں میں غنیمت السدیہ

سب سے پہلے در دنیا دنیا کیوں اچھا نظر آتی ہے سر پر ہمارے رشتہ دار

2۔ یہ کہ صفا علیہ (178/59) سے ہم دنیا کیوں سے ہمیں دیکھتا ہے

ظاہر نہیں کہ ہم سے صلاحت فرما ہو کر سہل اپنے بچوں

کے جان بچانے کے فطر کاؤں سے صلاحت کیوں نہیں آتی اور

سہل کے جان بچوں کو جان سے مارنے کا فطرہ لافق تھا اور

سہل اپنے جان بچوں کے ساتھ انہیں تک کاؤں سے باہر ہے

3۔ یہ کہ ہم تو بیاں آ رہی ہے صلاحت سے کلید لگی ہو مطلقا

اور ہم ایک ہی آواز کی گہری ہے اور ایک ہی طرف مائل

سے تعلق رکھتا ہے۔

4۔ یہ کہ ہم نے فطرہ کی صلاحت فرما ہونے کو ہر وقت قبولی سے  
میں ہے۔

5۔ یہ کہ ہم ایک عزیز اور مال کی دار تعلقہ اپنے ہم کے صلاحت

کو صلاحت رکھتے ہوئے سہل کے تنخواہ پر لیں اور ان کے لئے  
کیوں ہمیں صلاحت کو با مال ہونے پر بعض اور زمین کو مہربانیاں دے رہے ہیں۔

6۔ یہ کہ ہم نے فطرہ کی صلاحت فرما ہونے کو ہر وقت قبولی سے  
میں ہے۔

7۔ یہ کہ ہم نے فطرہ کی صلاحت فرما ہونے کو ہر وقت قبولی سے  
میں ہے۔

8۔ یہ کہ ہم نے فطرہ کی صلاحت فرما ہونے کو ہر وقت قبولی سے  
میں ہے۔

صفا علیہ 26/8/1950

حضرت یونس و در حد صمیم سکہ صادرہ بلوغہ (دھیرا) تغیر امور تعلق تعلق

Note:—The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years, and the Signature to Nos 9 and 10 should be dated.

1. Name

MR. HAZRAT YOUNAS

2. Race

Muslim

3. Residence

Village Keon Alhadi Street  
Shonglu

4. Father's name and residence

MUHAMMAD RAHIM

AS ABOVE

5. Date of birth by Christian era as nearly as can be ascertained

4-7-1969 4th July  
N.H. Sierik Nbre


6. Exact height by measurement

5-6

7. Personal marks for identification

Nil

8. Left hand thumb and Finger impression of (non-gazetted) officer



Little Finger.



Ring Finger.



Middle Finger.



Fore Finger.



Thumb.



9. Signature of Government servant

*Handwritten signature*

10. Signature and designation of the Head of the Office, or other Attesting Officer.

*Handwritten signature*  
District Education Officer

گورنمنٹ پبلسٹک اور جاب نمبر ۱۱۲/۳۱۱۲ ایف اے ایس اے ۲۰۰۶

رجسٹر جانری ڈائری گورنمنٹ پبلک سکول ریسرچ سوسائٹی قلم

نام		بابت ماہ		اگست		سپتمبر	
عمر		ایگزٹ		ایگزٹ		ایگزٹ	
P.A.I		P.B.T		T.T		P.A.I	
تاریخ آمد	دستخط	تاریخ آمد	دستخط	تاریخ آمد	دستخط	تاریخ آمد	دستخط
۱	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۳	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۴	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۵	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۶	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۷	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۸	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۹	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۰	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۱	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۲	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۳	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۴	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۵	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۶	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۷	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۸	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۱۹	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۰	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۱	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۲	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۳	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۴	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۵	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۶	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۷	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۸	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۲۹	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴
۳۰	۸/۳	۱۱/۴	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴	۸/۳	۱۱/۴

میزان	سابقہ	حال	میزان	سابقہ	حال	میزان	سابقہ	حال	میزان	سابقہ	حال
۰۶	۰۳	۰۳	۱۱	۰۴	۰۷	۰۷	۰۳	۰۴	۱۹	۱۳	۰۶
۰۶	۰۳	۰۳	۱۱	۰۴	۰۷	۰۷	۰۳	۰۴	۱۹	۱۳	۰۶

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

دستخط پبلسٹک

بعدالت جناب سرورک سرزبول لیسٹ و

2019 جناب

صرت لیسٹ بنام حکومت

اڈل نمبر: 1441/2019

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیردی وجوہ دی دکل کاروائی متعلق  
آن مقام لیسٹ کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کمال اختیار ہوگا۔ نیز دکیل صاحب  
کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دیئے جواب دی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے  
اجراء اور وصولی چیک درو پیہ عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زاریں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔  
نیز بصورت عدم پیردی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور سنسٹی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیردی  
کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور دکیل یا مختار  
قانونی کو اپنے ہمراہ اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی دی جملہ مذکورہ باختیارات  
حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داخست منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ دہر جائے التوائے  
مقدمہ کے سبب ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو دکیل صاحب پابند نہ ہونگے  
کہ پیردی مذکور کریں۔ لہذا کالت نامہ لکھدیا کہ سند ہے۔

Accepted by

2019

2019

کیلے منظور ہے۔

الرقوم

بمقام

11/11/2019

د گواہ ش د العبد

صرت لیسٹ

صرت لیسٹ بنام حکومت

KHYBER PAKHTUNKWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

No. 1952 /ST

Dated 29/7/2020


To

The District Education Officer,  
Government of Khyber Pakhtunkhwa,  
Shangla.

Subject: - JUDGMENT IN APPEAL NO. 1441/2019, MR. HAZRAT YOUNAS.

I am directed to forward herewith a certified copy of Judgement dated 14.07.2020 passed by this Tribunal on the above subject for strict compliance.

Encl: As above

  
REGISTRAR  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL  
PESHAWAR.